



**THE  
SENATE OF PAKISTAN  
DEBATES**

**OFFICIAL REPORT**

Friday, December 13, 1974


**CONTENTS**

|   | PAGES |
|---|-------|
| Motion <i>Re</i> : Appointment of Special Committee to draft Senate Rules of Procedure— <i>Adopted</i> .. .. .                              | 269   |
| Motion <i>Re</i> : Production Minister's statement about earning of no profit by Government from taken-over industries— <i>Withdrawn</i> .. | 272   |
| Motion <i>Re</i> : The policy of Federal Government in respect of Baluchistan— <i>Fell Through</i> .. .. .                                  | 273   |
| Motion <i>Re</i> : Non-implementation of Distribution of Revenues Order, 1971— <i>Talked out</i> .. .. .                                    | 274   |
| Motion <i>Re</i> : Federal Government's White Paper on Baluchistan Situation— <i>Fell Through</i> .. .. .                                   | 305   |
| Motion <i>Re</i> : Appointment of Special Committee to Investigate into the causes of Tarbela Dam disaster— <i>Dropped</i> .. .. .          | 305   |

PRINTED AT THE EDUCATIONAL PRESS, KARACHI.

PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, KARACHI

Price : Ps. 50



**SENATE DEBATES**  
**SENATE OF PAKISTAN**

---

Friday, December 13, 1974

---

The Senate of Pakistan met in the Senate Chamber (State Bank Building), Islamabad, at four of the clock in the evening, Mr. Deputy Chairman (Mr. Tahir Mohammad Khan) in the Chair.

---

(Recitation from the Holy Qura'n)

---

**MOTION RE: APPOINTMENT OF SPECIAL COMMITTEE TO DRAFT  
SENATE RULES OF PROCEDURE**

**Mr. Deputy Chairman:** Yes, Item No. 2 of the Orders of the Day.

**Malik Mohammad Akhtar:** I would like to move an oral amendment in this motion of Khawaja Sahib appearing at item No. 2, Sir, and with your leave of course—because some notice is required and with your consent that notice can be waived—if you allow me, Sir, I would like to make the oral amendment.

**Mr. Deputy Chairman:** You have my permission to move the oral amendment. Please move your amendment.

**Malik Mohammad Akhtar:** Sir, I make an oral amendment in the motion moved by Khawaja Mohammad Safdar under Rule 173 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1973, and propose the composition of the Special Committee as under:—

1. Mr. Tahir Mohammad Khan
2. Rao Abdus Sattar
3. Khawaja Mohammad Safdar
4. Mr. Shahzad Gul
5. Mr. Zamarud Hussain
6. Mr. Zafar Ahmad Qureshi

[Malik Mohammad Akhtar]

7. Sardar Mohammad Aslam
8. Mr. Mohammad Sulleman M. Samejo
9. Mr. Ahmad Waheed Akhtar
10. Agha Ghulam Nabi Khan
11. Mr. Ihsanul Haq
12. Mr. Fazal Ellahi Piracha
13. The Mover.

The quorum of the Committee shall be of five. The Committee shall submit its report within three months from the date of its formation before the Senate. The Committee shall elect its own Chairman.

Sir, this is for the purposes of framing Rules of Procedure for the Senate and, Sir, Mr. Zahurul Haq....

**Mr. Deputy Chairman:** No No it is No. 14. We have not retained from this list. You need not classify it.

**Malik Mohammad Akhtar:** All right, Sir, then he may be included.

**Mr. Deputy Chairman:** Is it an oral amendment?

**Malik Mohammad Akhtar:** Oral, Sir.

**Mr. Deputy Chairman:** Mr. Zahurul Haq?

**Malik Mohammad Akhtar:** Yes, Sir.

**Mr. Deputy Chairman:** The amendment moved is that the following names be substituted instead of the names moved by Khawaja Mohammad Safdar in his earlier resolution moved, I think, on 13th August, 1974. The substituted list is:—

1. Mr. Tahir Mohammad Khan
2. Rao Abdus Sattar
3. Khawaja Mohammad Safdar
4. Mr. Shahzad Gul
5. Mr. Zamarud Hussain
6. Mr. Zafar Ahmad Qureshi
7. Sardar Mohammad Aslam
8. Mr. Mohammad Sulleman M. Samejo

9. Mr. Ahmad Waheed Akhtar
10. Mr. Ihsanul Haq
11. Agha Ghulam Nabi Khan
12. Mr. Fazal Ellahi Piracha
13. The Minister of State for Parliamentary Affairs
14. Mr. Zahurul Haq

**Khawaja Mohammad Safadr:** I accept this amendment, Sir.

**Mr. Deputy Chairman:** The amendment is not opposed.

Now, the original motion and the question before the House would be that a Special Committee consisting of the following Members be formed to draft the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate as required under Article 67 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.

**Malik Mohammad Akhtar:** The Special Committee shall place the draft rules before the Senate within three months

**Mr. Deputy Chairman:** You do not have any objection to this '3 months'?

**Khawaja Mohammad Safdar:** Three months from the first meeting?

**Malik Mohammad Akhtar:** Yes, Sir.

**Mr. Deputy Chairman:** But let it be amended in the original resolution.

**Malik Mohammad Akhtar:** I amend it: 'three months from its first meeting.'

**Mr. Deputy Chairman:** Commencing from its first meeting.

Again the question before the House is: That a Special Committee consisting of the following Members be formed to draft Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, as required under Article 67 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Sub-Committee shall place the draft rules before the Senate within three months after its first meeting. The names are:—

1. Mr. Tahir Mohammad Khan
2. Rao Abdus Sattar
3. Khawaja Mohammad Safdar
4. Mr. Shahzad Gul

[Mr. Deputy Chairman]

5. Mr. Zamarud Hus ain
6. Mr. Zafar Ahmad Qureshi
7. Sardar Mohammad Aslam
8. Mr. Mohammad Sulleman M. Samejo
9. Mr. Ahmad Waheed Akhtar
10. Mr. Ihsanul Haq
11. Agha Ghulam Nabi Khan
12. Mr. Fazal Ellahi Piracha
13. Minister of State for Parliamentary Affairs
14. Mr. Zahurul Haq.

The quorum of the Committee shall be five. The Committee shall submit its report within three months from the day of its first meeting. The Committee shall elect its own Chairman.

(The motion was adopted)

**Mr. Deputy Chairman:** The motion is carried.

Now, Item No. 3 on the list.

**MOTION RE: PRODUCTION MINISTER'S STATEMENT ABOUT  
EARNING OF NO PROFIT BY GOVERNMENT FROM TAKEN-OVER  
INDUSTRIES**

**Mr. M. Rafi Raza:** This motion was moved last Friday, and subsequently I pointed out to the Hon'ble Member who moved the Adjournment Motion that the Nawa-i-Waqt had really taken completely out of context two different sentences and put them together. It would be a fruitless debate if he were to rely on an incorrect statement. I suggested that we should, in fact, debate the operations or profitability of BIM. I said to him that we could debate the matter next Friday and I would give him the Annual Report for 73-74 so that he should also be prepared and not just make accusations. Unfortunately, Sir, the Annual Report is not yet published. So if we could debate the profitability and operations, but not the exact text of the Resolution next Friday, the Mover of the Resolution should be ready for that.

**Mr. Deputy Chairman:** I am sorry I have to tell you that under the rules we can only consider this motion. The motion is: "That the following statement made by the Minister for Production and published in the Daily Nawa-i-Waqt of 14th October, 1974 (Lahore Edition) be taken into consideration." I think, it is only your statement which can be discussed and not the policy.

خواجہ محمد صفدر : جناب والا ! اس سلسلے میں میں معزز ایوان سے  
اسے واپس لینے کی درخواست کروں گا۔ محترم وزیر صاحب نے ارشاد فرمایا  
ہے کہ وہ کسی روز بھی اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں اور میں  
بھی تیار ہوں اس لئے جو دن یہ مناسب سمجھیں مقرر کر لیں میں اسے وڈٹراء  
کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین : اس کے لئے تو ریزولیشن ہونا چاہیے۔

خواجہ محمد صفدر : جی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

**Mr. Deputy Chairman:** If you concede that he should discuss the policy, the motion has to be amended first.

خواجہ محمد صفدر : جناب والا ! جب کہ محترم وزیر صاحب فرماتے ہیں  
کہ یہ ان کا بیان نہیں ہے تو اسے زیر بحث لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں  
تو چاہتا ہوں کہ بات آگے چلے اور اس کے لئے وہ بھی تیار ہیں۔ اس کے لئے  
مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس تحریک کو واپس لے لوں۔

**Mr. Deputy Chairman:** Please refer to the rules. What are the rules?

**Khawaja Mohammad Safdar:** Sir, we can frame the rules.

**Mr. Deputy Chairman:** Let us observe the rules whatever they are.

**Khawaja Mohammad Safdar:** I will state the rules in this respect.

**Mr. Deputy Chairman:** Well, does the House allow him to withdraw?

**Senators:** Yes.

**Mr. Deputy Chairman:** The motion is withdrawn. Now, item No. 4.

MOTION *re*: THE POLICY OF FEDERAL GOVERNMENT IN  
RESPECT OF BALUCHISTAN

خواجہ محمد صفدر : جناب والا ! نمبر چار آئٹم کے متعلق اجازت دہیں  
تو عرض کروں۔ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے باہمی مشورے سے

[Khawaja Mohammad Safdar]

۱۶ تاریخ اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ اس لئے یہ قواعد کی رو سے پیش نہیں ہو سکتی اور میں اسے پیش بھی نہیں کرنا چاہتا۔

**Mr. Deputy Chairman:** Now, the Mover of the motion wants to withdraw it. Is it the pleasure of the House that the Motion be withdrawn?

**Senators:** Yes.

**Mr. Deputy Chairman:** The Motion is withdrawn. It is not moved. Therefore, we move on to item No. 5.

**MOTION RE: NON-IMPLEMENTATION OF DISTRIBUTION OF REVENUES ORDER, 1971**

**Khawaja Mohammad Safdar:** Sir, I beg to move:

“That the situation arising out of the non-implementation of the provisions of the Distribution of Revenues Order, 1971 (President’s Order No. 10 of 1971) by the Federal Government be taken into consideration.”

**Mr. Deputy Chairman:** The Motion moved is:

“That the situation arising out of the non-implementation of the provisions of the Distribution of Revenues Order, 1971 (President’s Order No. 10 of 1971) by the Federal Government taken into consideration.”

I think, it is not opposed.

چوہدری محمد حنیف خان : آپ اس پر بولنا چاہتے ہیں؟

خواجہ محمد صفدر : جی ہاں۔ ویسے بھی مجھے پہلے بولنے کا حق ہے۔

**Mr. Deputy Chairman:** The Motion has been moved. Do you oppose it or not oppose it? Formerly, you did not oppose it.

**Ch. Mohammad Hanif Khan:** There is no question of opposing it, because a discussion has to take place.

**Khawaja Mohammad Safdar:** You will have ample opportunity to explain.

جناب والا! اگر اجازت دیں تو نماز کے بعد شروع کیا جائے۔ تین چار

منٹ رہتے ہیں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : میرے خیال میں آئندہ کے لئے یہ کیا کریں گے کہ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے اجلاس رکھ دیں گے تاکہ بعد میں جب ممبر صاحبان جمع ہوں تو شیڈول میں کوئی خرابی نہ ہو۔ چار بجے کا ٹائم تھا اور پونے پانچ بجے شروع ہوا۔ میرے خیال میں پندرہ منٹ کا وقفہ کافی ہوگا۔

The House stands adjourned for fifteen minutes to meet again at 5-15 p.m.

The House adjourned for Maghr. b prayers.

The Senate reassembled after Maghreb prayers, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

Mr. Deputy Chairman: Yes, Khawaja Sahib.

خواجہ محمد صفدر : جناب چیئرمین ! مرکزی محاصل کی تقسیم کا مسئلہ صوبوں اور مرکز کے درمیان ایک عرصے سے چلا آتا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی برصغیر میں یہ مسئلہ موجود تھا۔ اور اس زمانے کی حکومت نے سر نمینٹر کو مقرر کیا۔ کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرے۔ انہوں نے ایک ایوارڈ دیا۔ جس کو نمینٹر ایوارڈ کہتے ہیں۔ ۱۹۳۷ء میں قیام پاکستان سے پہلے اور اسکے بعد ۱۹۵۱ء تک اسی ایوارڈ کے تحت مرکز اور صوبوں کے درمیان محاصل کی تقسیم ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد ۱۹۵۱ء میں یہ مسئلہ پھر پیدا ہوا۔ اور صوبوں نے مطالبہ کیا جس طرح مرکزی محاصل مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم کئے جا رہے ہیں۔ وہ درست نہیں ہیں اس سے صوبوں کے حقوق زائل ہو رہے ہیں۔ اسلیئے اس ایوارڈ کے تحت arrangement پر نظر ثانی کی جائے۔ اس زمانے کی مرکزی حکومت نے Sir Jermy Raisman کو اس مقصد کے لیے انگلستان سے بلایا تاکہ وہ اس مسئلہ کا حل تلاش کریں، کیونکہ کسی زمانے میں وہ برصغیر کی اگزیکٹو کونسل کا فنانس ممبر رہ چکا تھا۔ اور انہوں نے ایک ایوارڈ دیا۔ جو Raisman ایوارڈ کہلاتا ہے۔

[Khawaja Mohammad Safdar]

ایک عرصہ تک مرکز اور صوبوں کے مابین اس ایوارڈ کے مطابق مرکزی محاصل کی تقسیم ہوتی رہی۔ لیکن چونکہ صوبہ جات کے پاس محاصل کی ایسی مددات تھیں۔ جو کہ جامد قسم کی تھیں۔ ان میں پھیلاؤ ممکن نہیں تھا۔ اسلئے صوبے شور مچاتے رہے۔ کہ ہمیں مرکزی محاصل میں سے ایسے مددات دی جائیں جن میں پھیلاؤ ممکن ہو۔ جن میں وسعت ہوتی رہی ہے اور صوبوں کو مرکزی محاصل میں سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ چنانچہ صوبوں کے اس مطالبے کے پیش نظر ۱۹۶۲ء میں نیشنل فنانس کمیشن اس زمانے کے آئین کے تحت معرض وجود میں آیا۔ اور اس نے کچھ سفارشات کیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ صوبوں کو جو حصہ مرکزی محاصل میں سے دیا جاتا تھا۔ اس میں کچھ اضافہ کیا گیا۔ لیکن پھر بھی یہ اضافہ اس قدر نہیں تھا۔ جس سے صوبہ جات کی تسلی ہو۔ اور ان کے مقاصد پورے ہو سکیں۔ اس لئے یہ ایجی ٹیشن، یہ مطالبہ بدستور جاری رہا ہے۔ اور نیشنل فنانس کمیشن نے ۱۹۶۵ء میں ایک نیا ایوارڈ دیا۔ اس طرح آخری ایوارڈ نیشنل فنانس کمیشن نے ۱۹۷۰ء میں دیا۔ جس کے مطابق اس زمانے کے صدر نے Presidential Order No. 10 ۱۹۷۱ء میں جاری کیا۔

چوہدری محمد حنیف خان : نمبر ۱۰ خطرناک ہے۔

خواجہ محمد صفدر : اکثر رانا صاحبان اس کے تحت آتے ہیں۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت اس موضوع کے متعلق جو قانون رائج ہے وہ صدارتی احکام نمبر ۱۰ سجر یہ ۱۹۷۱ء ہے۔ جناب چیئرمین! میرے پاس وقت کم ہے اور موضوع ذرا طویل ہے اس لیے میں اختصار سے کام لوں گا۔ تاکہ ضروری باتیں کہہ سکوں۔ اس آرڈر کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ مرکزی محاصل کو اس طور پر تقسیم کیا جائے۔ ٹیکسس آن انکم ۸۰ فیصد صوبہ جات کو ملیں۔

|  |    |    |      |
|--|----|----|------|
| Duties and excise on tea, tobacco and betelnut             | .. | .. | 80%  |
| Taxes on sale and purchase                                 | .. | .. | 80%  |
| Export duties on jute and cotton                           | .. | .. | 80%  |
| Estate and Succession Duty in respect of agricultural land | .. | .. | 100% |
| Taxes on capital value of immoveable property              | .. | .. | 100% |

صوبہ جات کو ملین گئے۔ اب جناب والا اس ۸۰ فی صد کی مزید تقسیم  
آرٹیکل ۳ پر یڈیٹڈ نیشنل آرڈر نمبر ۱۰، ۱۹۷۱ء میں کی گئی۔ صوبہ جات کے  
۸۰ فیصد حصہ میں سے آبادی کے اعتبار سے ۳۵ فیصد حصہ مشرقی پاکستان  
کو دیا جائیگا۔ اور بقایا مغربی پاکستان کو اور جن حالات میں ۱۰۰ فیصد  
ٹیکس صوبہ جات کو ملتے ہیں ان میں سے بھی ۳۵ فیصد مشرقی پاکستان کو  
جانا تھا اور ۶۵ فیصد مغربی پاکستان کو اور اس طور پر چندے یہ کام  
ہوتا رہا۔ ہماری بد قسمتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ مشرقی پاکستان شامل  
نہیں رہا۔ اور پاکستان صرف چار صوبہ جات پر مشتمل رہ گیا ہے جسے پہلے  
مغربی پاکستان کہتے تھے۔ اس آرڈر کے تحت جیسا کہ کلاز ۳ میں لکھا  
ہوا ہے کہ صوبہ جات کو بھی محاصل کا ۸۰ فیصد اور بعض محاصل کا ۱۰۰ فیصد  
ملے گا۔ جب تک مشرقی پاکستان ملک کا حصہ رہا عمل ہوتا رہا لیکن  
مجھے یہ نہایت افسوس ہے اور دکھ ہے کہ وفاقی مشرقی  
پاکستان کی علیحدگی کے بعد مشرقی پاکستان کا مرکزی محاصل میں مقررہ حصہ  
خود اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا۔ اور مغربی پاکستان کو صرف وہی حصہ دیا  
جارہا ہے جو اسے مشرقی پاکستان کی موجودگی میں ملتا تھا۔ مغربی پاکستان  
کے حصے کو مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں اسی طور پر اس صدارتی  
حکم کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے پنجاب ساڑھے ۶۵ فیصد، سندھ ساڑھے  
۲۳۵ فیصد، صوبہ سرحد ساڑھے ۱۵۰ فیصد اور بلوچستان کو ساڑھے ۵۰  
فیصد لیکن مرکزی حکومت نے صدارتی حکم کے آرٹیکل ۳ کو سرے سے بھلا  
دیا۔ اور اس سے پہلے جتنے احکامات جاری ہوتے رہے وہ یہ تھے کہ آبادی  
کے اعتبار سے اس ملک کے صوبہ جات کو اس ملک کی اکائیوں کو یہ محاصل  
تقسیم کرنے تھے۔ کیونکہ یہ ایک وفاقی ملک ہے اور وفاقی حکومت کے

[Khawaja Mohammad Safdar]

ٹیکسز میں سے ہر اکائی کو اس کا جائز حصہ ملنا ضروری ہے۔ اس بنیاد پہ یہ تمام احکامات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے یکے بعد دیگرے جاری ہوتے رہے۔ لیکن ۷۳-۱۹۷۲ اور ۷۴-۱۹۷۲ کی پہلی ششماہی بھی جو ۷۲-۱۹۷۱ کے مالی سال میں آئیگی۔ اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس وقت محترم وزیر خزانہ اس بات کی تردید نہیں کر سکیں گے کہ بجائے اس بات کے کہ جن محاصل کا ۸۰ فیصد صوبہ جات کو ملنا تھا یا جن کا ۱۰۰ فیصد حصہ صوبہ جات کو ملنا تھا بجائے وہ تمام کا تمام چاروں صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ وزارت خزانہ اس وقت یہ کر رہی ہے کہ وہ ۳۶ فیصد جو کہ مشرقی پاکستان کی موجودگی میں مغربی پاکستان میں واقع صوبہ جات کو ملنا تھا صرف وہ تقسیم رہی ہے اور مشرقی پاکستان کا ۵۶ فیصد اپنے ۲۰ فیصد حصہ کے علاوہ لے لیتی ہے۔ یعنی اس طرح ۷۶ فیصد کم و بیش ان محاصل میں سے وفاقی حکومت حاصل کر رہی ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ جن محاصل میں سے ۸۰ فیصد یا بعض میں ۱۰۰ فیصد میں صوبوں کو ملنا تھا ان میں سے ۸۰ فیصد کا ۳۶ فیصد یعنی کم و بیش ۳۰ فیصد سے بھی کم صوبہ جات کو مل رہا ہے۔ جناب والا! ان کی اپنی شائع کردہ دستاویزات یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ صوبہ جات کا حصہ ہے :

“The Provincial share has been worked out according to the Distribution of Revenues Order, 1971 (President’s Order No. 10 of 1971). The basis for the allocation of Provincial share of various taxes under the Order of 1971 is indicated below:—

|                                  |    |    |    |    |    |      |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|------|
| Taxes on Income                  | .. | .. | .. | .. | .. | 80%  |
| Sales Tax                        | .. | .. | .. | .. | .. | 80%  |
| Wealth Tax on immovable property | .. | .. | .. | .. | .. | 100% |
| Estate Duty on agricultural land | .. | .. | .. | .. | .. | 100% |

The Provincial share is apportioned in the Provinces in the ratio of 56.5% Punjab, 23.5% Sind, 15.5% N.W.F.P and 4.5% Baluchistan in the case of Taxes on Income and Sale Tax.”

Explanatory Memorandum on the Budget of the Government of یہ اقتباس  
Pakistan, 1973-74

کے صفحہ نمبر ۱۱ سے میں نے پیش کیا ہے۔ اس سال تو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو چکا تھا مگر اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قابل تقسیم محاصل میں صوبہ جات کا حصہ ۸۰ فیصد اور بعض صوبوں میں ۱۰۰ فیصد ہے۔

سال رواں کی بجٹ دستاویزات کو ملاحظہ فرمائیں۔ (ملاحظہ ہو صفحہ

Explanatory Memorandum on the Budget, 1974-75. (نمبر ۹)

تو آپ کو یہ عبارت یہاں ملتی ہے۔ وہی الفاظ ہیں البتہ نین مزید قابل تقسیم ٹیکسوں کا اس میں ذکر ہے :

“The Provincial share has been worked out according to the Distribution of Revenues Order, 1971 (President's Order No. 10 of 1971), which provides for the transfer of net collections under specific heads as follows:—

|  |      |
|--|------|
| (a) Taxes on Income .. .. .                                | 80%  |
| (b) Duties of excise on tea, tobacco and be el-nuts.. .. . | 80%  |
| (c) Taxes on sales and purchases .. .. .                   | 80%  |
| (d) Export Duty on Cotton .. .. .                          | 80%  |
| (e) Wealth Tax on immovable property .. .. .               | 100% |
| (f) Estate Duty on agricultural land .. .. .               | 100% |

The Provincial share is apportioned among the Provinces in Pakistan in the ratio of 56.5% for Punjab, 23.5% for Sind, 15.5% for N.W.F.P. and 4.5% for Baluchistan.

تو بہت ہی یہی عبارت Explanatory Memorandum بجٹ ۱۹۷۰-۷۱

میں موجود ہے۔ مگر مرکز ان دستاویزی ثبوت کے خلاف عمل کر رہا ہے اور صوبوں کو ۸۰ فیصد سے بھی کم حصہ دے رہا ہے۔ اب جناب والا! اس دھاندلی کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سالی دھاندلی ہے میرے نزدیک مرکز سینہ زوری سے کام لے رہا ہے صوبے کسمپرسی کی حالت میں اپنی ضروریات کے لئے ہر وقت مرکز کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی وفاقی حکومت کے زعماء کی طرف سے یوں اعلان ہوتا ہے کہ پانچ کروڑ روپے

[Khwaja Mohammad S. Far]

جیسا کہ خیرات دی جاتی ہے سرحد کو دے دیئے گئے، چھ ہتر کروڑ روپے مثلاً بلوچستان کو دے دیئے گئے۔ پنجاب کو اتنے دے دیئے گئے حالانکہ دیتے نہیں ہیں بلکہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے۔ ان کی اس دہاندلی کی وجہ سے میرے حساب کے مطابق اور میں نے ایک ایک مد کا حساب کیا ہے۔ جتنے قابل تقسیم مرکزی محاصل ہیں ان سب کا میں نے بڑی عرق ریزی سے حساب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعداد و شمار جو میں پیش کر رہا ہوں ان میں غلطی کا امکان کم ہے تو میں گذشتہ تین سال جن کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ مرکز نے کس قدر رقم وہ رقم جو صوبہ جات کے حصہ میں جاتی تھیں وہ اپنے پاس رکھ لی۔ اور حضور والا وہ رقم کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ ۱۹۷۲-۷۳ میں میرے حساب کے مطابق ایک سو اٹھارہ کروڑ سینتالیس لاکھ روپے ۱۹۷۳-۷۴ میں ایک سو پچیس کروڑ سینتالیس لاکھ روپے اور سال رواں میں جو ان کا ارادہ ہے دینے کا جو انہوں نے ایلو کیشن کی ہیں اپنی جانب سے اس کے حساب سے مرکزی محاصل میں سے صوبہ جات کا جو حق بنتا ہے اس میں سے ایک سو ستر کروڑ سینتالیس لاکھ روپیہ کم ملے گا۔ اس طور پر تین سالوں کو ملایا جائے تو مرکزی حکومت نے چار سو چودہ کروڑ اکتالیس لاکھ روپیہ جو کہ صرف اور صرف صوبہ جات کا حصہ بنتا ہے۔ خود ہضم کر لیا اور ڈکار بھی نہیں لی۔ جناب والا! میں اس ضمن میں اس ایوان سے اس لئے چند گزارشات کر رہا ہوں کہ یہ ایوان . . . .

سید قائم علی شاہ جیلانی : ہوائنٹ آف ایکسپایشن۔ یہ جو اعداد و

شمار بتا رہے ہیں یہ ۱۹۷۱ء آرڈیننس کے تحت بتا رہے ہیں یا جو ڈویژن کانسٹی ٹیوٹن کے تحت کی گئی ہیں ٹیکسز کی اس کے تحت بتا رہے ہیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز؟

(Interruption)

**Syed Qaim Ali Shah Jillani:** Point of personal explanation, Sir. Khawaja Sahib will excuse me. The figures that he is quoting are these according to the present Constitution or 1971 Order?

**Khawaja Mohammad Safdar:** 1971 Order, which is being operated even now.

**Syed Qaim Ali Shah Jillani:** Then, Sir, I think, it is beyond the scope of the Constitution what he is discussing.

(Interruption)

**Mr. Deputy Chairman:** Excuse me for a minute. As he has asked a point of personal explanation, we should deal with it. Rana Sahib, will you please clarify whether this Order is operative even today?

**Ch. Mohammad Hanif Khan:** It is operative and it is being implemented.

**Syed Qaim Ali Shah Jillani:** I say that the figures that he has given, whether these are being given under the Order of 1971 or under the Constitution.

**Ch. Mohammad Hanif Khan:** That is a different point. Shah Sahib is right when he says that there are certain provisions in 1971 Order which cannot be discussed because of the Constitution. I will discuss that when I reply to the honourable Member.

خواجہ محمد صفدر : جناب والا ! جیسا کہ محترم وزیر مال صاحب نے ارشاد فرمایا ہے آرڈر ۱۰ مجریہ ۱۹۷۱ء اس وقت نافذ العمل ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے ان کے بیان کے آخری حصہ سے اتفاق نہیں یہ ہمارا قانون ہے اس بلک کا قانون ہے جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں محترم وزیر صاحب کے علم میں شاید اضافہ نہیں کروں گا۔ موجودہ آئین کے تحت اگلے روز میں نے ڈاکٹر مبشر حسن سابق وزیر خزانہ سے سوال بھی پوچھا تھا۔ انہوں نے جواب بھی دیا تھا میں نے ان پوچھا تھا کہ حال ہی میں اس آئین کے تحت اگر نیشنل فنانس کمیشن قائم کی گئی ہے۔ تو اس ایوان کے سامنے اسکی سفارشات رکھی جائیں۔ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ نیشنل فنانس کمیشن تو قائم ہے لیکن ابھی اسکی سفارشات موصول نہیں ہوئیں۔ شاید موجودہ وزیر خزانہ صاحب ہمیں یہ بتا سکیں کہ ان کی سفارشات آگئی ہیں جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ

[Khawaja Mohammad Safdar]

سابقہ اجلاس کی بات ہے۔ اس لئے جب تک نیشنل فنانس کمیشن اپنی سفارشات حکومت کو نہیں بھیجتی اور حکومت ان سفارشات کی روشنی میں کوئی نیا قانون وضع نہیں کرتی یا موجودہ قانون کو صدر مملکت پاکستان اپنے مخصوص اختیارات کے ساتھ جو کہ انہیں آئین کے تحت حاصل ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے تب تک جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے جناب والا! میں عرض کر رہا تھا جو اعداد و شمار میں پیش کئے ہیں۔ تاکہ کوئی ذہنی خلفشار نہ رہے کوئی گنجاک نہ رہے میں نے تین سالوں کی چار سو چودہ کروڑ اکتالیس لاکھ روپے کی جو رقم بتائی ہے یہ اس رقم کے علاوہ ہے جو صوبہ جات کو قابل تقسیم ٹیکسز میں سے مل چکی ہے۔ میرا یہ دعویٰ میرا یہ مؤقف ہے یہ رقم صوبہ جات کو ان رقم کے علاوہ جو گذشتہ تین سالوں میں مال روں کو ملا کر صوبہ جات کو ملنی چاہیئے تھی یہ رقم ان کا حصہ تھی جو ناجائز طور پر خلاف قانون طور پر ناروا طور پر اس کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہے نہ کوئی قانونی جواز ہے۔ مرکز نے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ اس لئے جناب والا میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایوان ایسا ہے جہاں کہ چاروں صوبوں کو یکساں نمائندگی ہے۔ یہ ہمارا سب کا فرض ہے۔ جہاں تک قومی مسائل کا تعلق ہے ان کو قومی نکتہ نظر سے دیکھا جائے۔ جہاں تک کسی یونٹ یا وفاقی اکائی کا تعلق ہے اس کے حقوق کی بھی اسکے نمائندے درست طور پر اسکی نگہداشت کریں اگر اسکے حقوق کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اسکی تلافی کرنے کی حکومت سے کوشش کریں تو جناب والا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس چار سو چودہ کروڑ سینتیس لاکھ میں سے ۵۶ فیصد حصہ کم و بیش ڈھائی سو کروڑ روپے صرف پنجاب کا بنتا ہے جو کہ اسے نہیں دیا گیا۔ پھر دھراتا ہوں چھپن اعشار یہ پانچ فیصد اس رقم کا پنجاب کا حصہ بنتا ہے جو اسے نہیں دیا گیا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں پنجاب کے نمائندے کی حیثیت سے اس مطالبے میں کسی قسم کا میرے

ان فرائض میں اور ان فرائض میں جو کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھ پر عائد ہیں کوئی conflict نہیں ہے اور اسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ چاروں اکائیوں کے نمائندے جو اس ایوان میں تشریف فرما ہیں وہ اپنے اپنے صوبے کے جائز حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب والا! میں یہ درخواست کروں گا۔ کہ اس قصہ کو احسن طریقہ سے نپٹانے کے لئے۔ ویسے چودہ اگست ۱۹۷۳ء کو موجودہ آئین نافذ کیا گیا۔ اور اس آئین کو نافذ ہونے سے سوا سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ National Finance Commission کی سست روی کا مجھے دکھ ہے اور میں کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتا کہ سوا سال میں National Finance Commission نے اتنی سست رفتاری کا ثبوت کیوں دیا ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عارضی طور پر عبوری طور پر ان محاصل کی تقسیم کا اعلان مختلف صوبوں میں مغربی پاکستان کا صوبہ توڑنے پر کیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں پنجاب کا حصہ ۵۶.۵ فیصد مقرر کیا گیا تھا۔ اگرچہ آبادی کے اعتبار سے ۱۹۷۱ء کے Order میں اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا۔ کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں ان محاصل کی تقسیم آبادی کے اعتبار سے کی جائیگی۔ مشرقی پاکستان کی آبادی ۴۵ فیصد اور مغربی پاکستان کی ۳۶ فیصد تھی۔ اس اعتبار سے محاصل کی تقسیم کی جاتی تھی اس اصول پر چاہیے یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں ان محاصل کو چاروں صوبوں کی آبادی کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا۔ لیکن مجھے یقین ہے۔ کہ میری constituency یعنی پنجاب مجھ سے اتلاف نہیں کرے گی اور پنجاب کو اعتراض نہیں ہوگا اگر اسکو اپنے چھوٹے بھائیوں خصوصیت سے چھوٹے اور غریب بھائیوں بلوچستان اور سرحد کے لئے کچھ دینا پڑے۔ کچھ ایثار کرنا پڑے۔ تو وہ فراخ دلی سے ایسا کرے گا۔ اور اسے کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب کہ یہ عبوری انتظام کیا گیا، اس وقت پنجاب کی آبادی

[Khawaja Mohammad Safdar]

ساڑھے ۶۲ فیصد تھی۔ اور پنجاب نے اپنے حصے سے چھ فیصد کم لینا قبول کیا۔ پنجاب ایشار کے لئے تیار تھا۔ تیار ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ بھی تیار رہیگا۔ لیکن اسکے ساتھ کیا میں اپنے محترم وزیر خزانہ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ صوبہ سندھ جو کہ پنجاب سے زیادہ اسپر صوبہ ہے۔ جس کی (Per capita income) فی کس آمدنی صوبہ پنجاب سے ۲۵ فیصد زیادہ ہے۔ اس نے کتنا ایشار کیا ہے۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ اس نے اپنی آبادی کے تناسب سے زیادہ حاصل کیا۔ میں یہ درخواست کروں گا یہ ان کا کام ہے کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان دونوں غریب صوبے ہیں۔ ان کے مالی وسائل کم ہیں اس لئے میں یہ درخواست کروں گا ان کے لئے، اپنے ان بھائیوں سے، اپنے ان پاکستانی بھائیوں سے جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے کیونکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کوئی زنجیر اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنی کہ اسکی ہر ایک کڑی۔ اگر پاکستان کا کوئی حصہ کمزور رہا تو پاکستان بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے چاروں بھائیوں کو ایک جتنی ہمت اور ایک جتنی قوت ملنی چاہیئے اور اسکے لئے جو ایشار کرسکتے ہیں جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایشار کریں۔ انہیں ایشار کرنا چاہیئے میں دعوت دے رہا ہوں، میں مجبور نہیں کرسکتا کہ ہمارے سندھی بھائی اس میں ہماری نقل کریں کہ ہم ان دونوں صوبوں کے لئے جو چھوٹے ہیں۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان ان کے لئے اپنے حصے میں معتدبہ رقم دین اور اپنے حصے سے کم لیں۔ ویسے تو پنجاب کی آبادی حالیہ مردم شماری میں ساڑھے ۵۸ فیصد رہ گئی ہے۔ اور پنجاب ۵۶۵ فیصد کے حساب سے حصہ لیتا ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ پنجاب کوئی زیادہ ایشار نہیں کر رہا یا دو فی صد ایشار کر رہا ہے۔ لیکن جب آبادی کا تناسب ساڑھے ۶۲ فیصد تھا اس وقت بھی پنجاب کو ۵۶۵ فیصد حصہ ہی ملتا رہا۔

جناب والا ! مجھے معلوم ہے کہ میرا مقررہ وقت ختم ہو رہا ہے۔

جناب چیئرمین : آپ wind up کریں۔

خواجہ محمد صفدر : میں جناب wind up کرتا ہوں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے تھوڑے سے وقت میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے نیک نیتی سے عرض کیا ہے۔ میں ہر قسم کی صوبائی عصبیت کے خلاف ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ میں ہر اکائی کو اس کا حق دلانے کے لئے، ہر وقت، ہر ممکن کوشش اور ہر ممکن قربانی کے لئے تیار ہوں۔ شکر یہ جناب۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکر یہ مسٹر شہزاد گل۔

جناب شہزاد گل : \*جناب والا ! میں مختصراً عرض کروں گا خواجہ صاحب نے اس مسئلے پر کافی تفصیل سے بحث کی ہے لیکن صوبہ سرحد کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میرا بھی فرض ہے کہ میں بھی اپنے اس پسماندہ علاقے کے متعلق اپنی گزارشات یہاں اس ہاؤس کے سامنے لاؤں اور protest کروں اور یہ بتانے کے لئے میں نے جتنی کوشش کی ہے۔ جتنی ضرب تقسیم کی ہے اس حساب سے فرنٹیئر کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ جناب والا ! اگر مشرقی پاکستان کا ۵۴ فیصد حصہ پاکستان کے باقی چاروں صوبوں میں تقسیم کیا جاتا آرڈر نمبر ۱۰ سن ۱۹۷۱ء کے مطابق تو فرنٹیئر کو ۱۹۷۲-۷۳ء میں بیس کروڑ روپیہ زیادہ ملتا اور ۱۹۷۳-۷۴ء میں ۲۲ کروڑ روپیہ۔ میں نے یہ حساب ضرب تقسیم سے لگایا ہے کہ ان محاصل سے فرنٹیئر کو ۲۰ کروڑ روپیہ ۱۹۷۲-۷۳ء میں اور ۲۲ کروڑ ۱۹۷۳-۷۴ء کم ملے۔

چوہدری محمد حنیف خان : کیا ۱۹۷۲-۷۳ء میں کتنے ملے ہیں ؟

جناب شہزاد گل : یہ ۲۳-۱۹۷۲ء کے بجٹ میں ہے ۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : مسٹر شہزاد گل تو اس assumption پر کہ فیڈرل گورنمنٹ نے زیادہ نہیں دیا اور جو percentage خواجہ صاحب نے بتائی ....

جناب شہزاد گل : اس طرح سے ، حساب سے سارے معامیل تقسیم کئے جاتے ۔ ۵ فیصد مشرقی پاکستان کا حصہ تقسیم کیا جاتا تو اتنی رقم فرنٹیئر کو زیادہ ملتی ۔

چوہدری محمد حنیف خان : ۲۳-۱۹۷۲ء اور ۲۳-۱۹۷۳ء میں ٹوٹل کتنے معامیل ملے ؟

جناب شہزاد گل : ۲۳-۱۹۷۲ء میں Taxes میں جو فرنٹیئر کے لئے تھے اس میں custom, income tax, sales tax wealth tax and estate duty ۱۳۵۳۶۱۳ اور پھر Revised میں یہ رقم کم ہو کر ۱۳۵۳۶۱۳ رہ گئی اور ۲۳-۱۹۷۳ء میں بجٹ تھا ۱۵۳۶۱۳ اور Revised میں ۱۳۶۷۶۲۰ ۔

چوہدری محمد حنیف خان : ٹوٹل taxes کتنے ملے ۲۰ کروڑ نکال کر ؟

**Mr. Deputy Chairman:** Let us not indulge in cross examination. He is speaking under presumptions, you can claim that.

جناب شہزاد گل : اگر اس سارے ۵ فیصد کو صوبوں میں تقسیم کیا جاتا تو فرنٹیئر کو زیادہ ملتا ۔ لیکن وہ ۲ فیصد جو تھا وہ مرکز لے جا رہا ہے ۔ ۵ فیصد بھی مرکز لے جا رہا ہے اور صوبے محروم ہیں ۔ آرٹیکل ۱۶ کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی اور جناب والا ۔

After the commencing day within six months the National Finance Commission. . . . کا قیام ضروری تھا اور یعنی . . .

چوہدری محمد حنیف خان : قائم ہو چکا ہے ۔

جناب شہزاد گل : تو اس نے کام شروع نہیں کیا نہ ۔ نئے سرے سے division نہیں کی اگر وہ division کر دیتا ۴۰ فیصد جو مشرقی پاکستان کا تقسیم کیا جانا تھا تو فرنٹیئر کو نقصان نہ ہوتا ۔ وہ ۴۰ فیصد مرکز نے لے لیا ہے اور صوبے اس سے محروم ہیں ۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ مرکز کو مجبور کریں کہ وہ صوبوں کو حصہ دے ۔ لہذا میں خواجہ محمد صفدر کی مکمل تائید کرتا ہوں اور protest کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس آرڈر ۱۰ آف ۱۹۷۱ کے تحت صوبوں میں divisible taxes کو تقسیم کیا جائیگا ۔

Thank you very much.

Mr. Deputy Chairman: Thank you very much. Now Mr. Zamarud Hussain.

جناب زمرد حسین : جناب چیئرمین ! مرکزی محاصل کی تقسیم کے سلسلے میں میرے محترم بزرگ اور ساتھی خواجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے گورنمنٹ کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور کئی ثبوت پیش کئے ہیں ۔ ان کو دہرانا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا ۔ میری رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ زندگی کے ہر شعبہ میں اس پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ صوبوں کو ہر قدم پر ہر موقع پہ اپنا محتاج بنا لیا جائے اور محاصل کی یہ تقسیم کا جو عمل ہے یہ بھی اس پالیسی کا ایک حصہ ہے ۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ صوبے اپنی مرضی سے اپنے پروگرام کے مطابق ترقی کرسکیں اور اپنے فرائض ادا کرسکیں ۔ اس لئے ان پر اپنی بالا دستی قائم رکھنے کے لئے اس قسم کی دھاندلی اور نا انصافی کے اکثر و بیشتر یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں ۔

Speech not corrected by the honourable Senator.

[Mr. Zamarud Hussain]

نیشنل فائنانس کمیشن جس کا ابھی یہ پراونشل آرڈر جاری کیا گیا اس کی رپورٹ میں یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ان محاصل کی تقسیم کا جو ہم نے بنیادی اصول بنایا ہے اس میں دو باتیں بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کم ترقی یافتہ علاقوں کو زیادہ محاصل دیں تاکہ وہ زیادہ ترقی کرسکیں اور ترقی یافتہ علاقوں کو کم دیں تاکہ دوسرے علاقوں کی کمی کو پورا کیا جاسکے۔ لیکن جناب والا! آپ حیران ہوں گے جیسے کہ رانا صاحب نے شہزاد گل کی تقریر میں بار بار کہا کہ ہم نے اتنے فگر دئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ۱۹۷۲-۷۳ء میں اس پراونشل آرڈر کی رو سے جو تقسیم ہونی چاہیئے تھی۔ کسٹم میں بلوچستان کو ۱۴۸۱ کروڑ روپے ملنا چاہئے تھا لیکن ۱۹۷۹ء دئے گئے۔ یعنی ۱۴۰۲ سے محروم کر دیا گیا اور ۱۹۷۳-۷۴ء میں ۳۶۷۰ ملنے تھے جن میں سے ۱۶۵۰ ملے اور ۳۶۲۰ سے محروم کر دیا گیا اور ۱۹۷۴-۷۵ء میں ۳۶۸۵ کروڑ روپے ملنے تھے جن میں سے ۱۶۶۷ ملے اور ۲۶۱۸ کروڑ سے محروم کیا۔۔۔ آپ گھبرا کیوں گئے ہیں یہ تو صرف کسٹم کا ہے۔۔۔ اب انکم ٹیکس کا سٹیٹس - ۱۹۷۲-۷۳ء میں ۳۶۸۰ کروڑ روپے بلوچستان کو ملنے تھے جن میں سے ۱۶۶۰ کروڑ ملے اور ۲۶۲۰ کروڑ سے محروم کر دیا گیا۔ ۱۹۷۳-۷۴ء میں ۳۶۱۳ کروڑ روپے ملنے تھے، جن میں سے ۱۶۶۶ کروڑ روپے ملے اور ۲۶۴۸ سے محروم کر دیا گیا۔ ۱۹۷۴-۷۵ء میں ۳۶۱۳ کروڑ روپے ملنے تھے جن میں سے ۱۶۶۷ ملے یعنی ۲۶۴۷ سے محروم کر دیا گیا۔ اب جناب سنٹرل اکسائز ۱۹۷۲-۷۳ء میں ۱۶۹۸ کروڑ ملنا تھا جن میں سے ۸۱۷ ملا اور ۱۶۱۷ سے محروم کر دیا گیا۔ ۱۹۷۳-۷۴ء میں ۲۶۴۳ کروڑ ملنا تھا جن میں سے ۱۶۳۹ سے محروم کر دیا گیا۔ ۱۹۷۴-۷۵ء میں ۲۶۵۳ ملنا تھا جن میں سے ۱۶۱۲ ملا اور ۱۶۴۱ سے محروم کر دیا گیا۔ اسٹیٹ ڈیوٹی ۱۹۷۲-۷۳ء میں ۱۶۵۴ کروڑ ملنا تھا جن میں سے ۷۷۷ ملا اور ۱۶۷۷ سے محروم کر دیا گیا۔ ۱۹۷۳-۷۴ء میں ۲۶۳۳ ملنا تھا جن میں سے ۷۷۷ ایک کروڑ روپے ملا اور ۱۶۵۶ سے محروم کر دیا گیا۔ ۱۹۷۴-۷۵ء میں

۲۶۵۲ ملنا تھا جن میں سے ۱۶۱۰ ملا اور ۱۶۴۲ سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح باقی ٹیکسس میں ۱۹۷۲-۷۳ میں ۲۶۹۲ ملنا تھا صرف ۶۱۶ ملا۔ ۱۹۷۳-۷۴ میں ۶۲۲ ملنا تھا جن میں سے ۷۷ ملا اور ۵۴۵ کروڑ سے محروم کر دیا گیا۔ ۱۹۷۴-۷۵ میں ۶۲۳ کروڑ ملنے تھے جن میں سے ۵۰۸ ملا اور ۱۵ کروڑ سے محروم کر دیا گیا۔ اب اگر آپ اس کا ٹوٹل کریں گے تو اس کی میزان ۲۱۶۵۳ کروڑ روپے ہے یعنی صوبہ بلوچستان کو ۲۱۶۵۳ کروڑ روپے سے محروم کر دیا۔ جس کے لئے جناب والا! صبح شام ریڈیو، ٹیلیویژن اور ٹرسٹ کے پیپر...

چوہدری محمد حنیف خان : آپ سارا ٹوٹل بتائیں۔

جناب زمرد حسین : جناب وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔

خواجہ محمد صدیق : اس میں اکثر حصہ قرضہ جات کا ہوتا ہے۔

جناب شہزاد گل : وہ لوگوں کی رشوتیں حساب میں نہ لائیں۔

Mr. Deputy Chairman: Please wind up your speech.

جناب زمرد حسین : جناب چیئرمین! میں آپ کی وساطت سے وزیر صاحب کو یاد دلاؤں گا کہ جولائی کے اجلاس میں ایک موشن پیش کی تھی جس میں جناب وزیر خزانہ نے کہا تھا یہ روپیہ بلوچستان میں ضائع کیا گیا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ہسہ ہم نے قرض دیا ہے جو کہ بلوچستان سے وصول کریں گے۔ جناب والا! صبح شام ریڈیو اور ٹیلیویژن پر یہ چیخ و پکار ہے کہ یہ امداد ہے ہم مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو کروڑوں اور اربوں روپے کی رقم فراہم کر رہے ہیں یہ صرف پراپیگنڈا ہے۔ اس سے بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ جناب والا! میں اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ فائننس کارپوریشن نے۔ National Finance Corporation 1970۔

[Mr. Zamarud Hussain]

The progress made during the Third Plan period in advancing the object of ensuring that disparity between various provinces and between different areas relating to *per capita* income are removed and that the resources of Pakistan including resources in foreign exchange are used in such a manner as to achieve that object in the shortest possible time.

جو اس کی رپورٹ ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ان کی رپورٹ یہ تھی کہ اس سلسلے میں ان محاصل کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس تقسیم کی صورت حال کیا نکلی کہ ۲۱ کروڑ جو بلوچستان کا حصہ تھا اس سے محروم کر دیا گیا۔ جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ۱۸ کروڑ دے دیے جناب والا! ون یونٹ کے خاتمے کے بعد جو تقسیم تھی مرکزی محاصل کی اس میں ۵ فیصد مشرقی پاکستان کا حصہ اور ۴ فیصد مغربی پاکستان کا تھا اور اس میں بلوچستان کو جو حصہ دیا گیا وہ ۵ فیصد تھا اس وقت بلوچستان . . . .

جناب ڈپٹی چیئرمین : سٹر زمرہ حسین - یہ تو آپ فگرز کی فلاسفی کو دہرا رہے ہیں یہ تو خواجہ صاحب نے فرما دیا ہے۔

جناب زمرہ حسین : جناب والا! اب میں جو مجھے خواجہ صاحب سے تھوڑا سا اختلاف ہے اس پہ آؤنگا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی۔

جناب قربان علی شاہ : پوائنٹ آف آرڈر۔ جناب والا! آپ نے ایک آدمی کے لئے دس منٹ مقرر کئے تھے۔ انہیں دس منٹ ہو گئے ہیں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : دس منٹ ابھی نہیں ہوئے۔

جناب زمرہ حسین : بہر حال اس وقت مرکزی محاصل کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ آبادی کے لحاظ سے کی گئی ہے اور آبادی کے لحاظ سے بلوچستان کو اس کا حصہ ۵ فیصد دیا گیا ہے۔ مجھے دراصل بنیادی طور پر اس

پہ اعتراض ہے۔ میں آپ کی وساطت سے اور اس ہاؤس کی وساطت سے، اس حکومت کے سربران سے یا ان لوگوں سے بن کے سینے میں پسماندہ علاقوں کا بڑا درد ہے اور خاص طور پر بلوچستان کا۔ پاکستان کا ۴۲ فیصد رقبہ بلوچستان پر مشتمل ہے اگرچہ اس کی آبادی ۲۷۔۳ فیصد ہے لیکن رقبہ ۴۲ فیصد ہے اور وہ ایسا علاقہ ہے جو معدنیات سے مالا مال ہے۔ جناب والا! میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کی ترقی کی بات ہے جس وقت تک اس وسیع رقبے میں ترقی کے امکانات پیدا نہیں کئے جائیں گے وہاں کے وسائل کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ اس وقت تک اس ملک کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

جناب والا! میں آپ کے توسط سے درخواست کروں گا کہ بلوچستان کو آبادی کے لحاظ اور جغرافیائی رقبے کے لحاظ سے محاصل میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ جب تک آپ اسے رقبے کے لحاظ سے محاصل میں سے حصہ نہیں دینگے اس وقت تک بلوچستان میں ترقی کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔۔۔

(مداخلت)

جناب زمرہ حسین : مجھے اس سے اختلاف ہے۔ آپ بلوچستان کو اسکے حصے میں جو محاصل آتے ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ وہ کہا جاتے ہیں۔ تو ہمیں رقبے کے لحاظ سے زیادہ حصہ کیا دیں گے۔ انہوں نے جو ہم کو روپیہ دیا ہے اور جناب رانا صاحب بھی بار بار repeat کر رہے ہیں۔۔۔

(مداخلت)

جناب ڈپٹی چیئرمین : آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ اپنی تقریر

کو wind up کریں۔

جناب زمرہ حسین : میں گزارش کروں گا کہ بلوچستان کا نام ایسا

ہے کہ ہم چاہے بلوچستان کی ترقی کی بات کریں۔ Treasury Benches کو الجھن شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو بلوچستان کے نام سے چڑھے۔۔۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : آپکا وقت ضائع کر رہے ہیں - آپ wind up کریں -

جناب زمرہ حسین : انہیں چڑھو گئی ہے - جناب میں گزارش کروں گا کہ مرکزی محاصل کے سلسلے میں جو نئی رپورٹ آئے گی ، میں آپ کے توسط سے مرکزی وزیر خزانہ سے یہ کہوں گا کہ وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف ہم سے زبانی محبت کا اظہار نہ کریں - اور صرف ریڈیو ٹیلیویژن اور ٹرسٹ کے جو اخبارات ہیں - ان میں ہم سے محبت کا اظہار نہ کریں بلکہ عملی طور پر آئیں اور باوچستان میں development کرنے کی کوئی بات کریں - افواج پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے وہاں کے ترقیاتی منصوبوں پر پیسہ خرچ کریں اور وہاں ہمیں قتل کرنے کی بجائے وہاں roads بنانے پر پیسہ خرچ کریں - وہاں آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو سیاسی طور پر Break کریں - آپ وہاں کارخانے قائم کریں . . . .

جناب ڈپٹی چیئرمین : اب آپ . . . .

جناب زمرہ حسین : میں ختم کرتا ہوں - بس میں ختم کرتا ہوں -

جناب ڈپٹی چیئرمین : شکریہ

( مداخلت )

سید قربان علی شاہ : میں چند منٹ لوں گا -

جناب ڈپٹی چیئرمین : جی فرمائیے -

سید قربان علی شاہ : جناب چیئرمین میرا پہلے اس موشن پر بولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا . . . .

جناب ڈپٹی چیئرمین : چلیں اب بول لیں -

سید قربان علی شاہ : لیکن میرے دوست اور ایوان کے معزز رکن خواجہ صفدر صاحب کی تقریر سننے کے بعد چند الفاظ کہنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کیونکہ میں یہاں سندھ کے نمائندے کی حیثیت سے موجود ہوں اور خواجہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ صرف سندھ ہی جو ہے وہ دوسرے صوبوں کا حصہ پڑپ کر رہا ہے اور سندھ کے لوگوں نے شاید پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لئے ماضی میں یا حال میں کبھی کوئی قربانی نہیں کی۔ جناب والا! میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے ملک کے وسیع تر مقاصد کے لئے ایک وقت ۶۰ فیصد آبادی کی بنیاد پر نمائندگی لینے کی بجائے parity کی بنیاد پر نمائندگی قبول کی تھی۔ اسی طریقے سے سندھ کے لوگوں نے بھی ہمیشہ پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لئے ہمیشہ بہا قربانیاں دی ہیں۔ جناب والا! خواجہ صاحب اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے ہاں جو نئے بیراج نکالے گئے ہیں۔ گدو بیراج، غلام محمد بیراج اور مکھی ویر بیراج پر وہاں لاکھوں بہار کے لوگوں کو زمینیں دی گئی ہیں۔ سندھ کے لوگ . . . .

خواجہ محمد صفدر : پوائنٹ آف آرڈر

میں عرض کروں گا کہ میں خوشی سے یہ سب باتیں سننے کے لئے تیار ہوں صرف قواعد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : کوشش کریں کہ قواعد کے اندر رہ کر اس موضوع پر بات کریں۔

سید قربان علی شاہ : جناب والا! ابھی ابھی زمرہ حسین صاحب نے . . .

خواجہ محمد صفدر : بیراج کی بھی کسی وقت بات کر لیں گے۔ میں وہ بھی بحث کرنے کے لئے تیار ہوں۔

سید قربان علی شاہ : زمرہ حسین صاحب نے آرمی پر اعتراض کیا، بلوچستان کے بارے بات میں کی۔ اگر وہ ساری باتیں خواجہ صاحب کی نظر میں relevant تھیں تو یہ بھی میرے خیال میں موضوع سے ہٹ کر نہیں ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : میں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا۔ چلنے آپ تقریر فرمائیے۔

سید قربان علی شاہ : بہر حال میری گزارش یہ تھی کہ سندھ نے ہمیشہ بہا خدمات کی ہیں۔

خواجہ محمد صفدر : اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

سید قربان علی شاہ : بلکہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ پورے برصغیر میں سندھ اسمبلی وہ پہلی اسمبلی تھی جس نے ۱۹۴۲ء میں پاکستان کے لئے ایک ریزولیشن پیش کیا تھا۔ بہر حال جو اعداد و شمار خواجہ صاحب نے پیش کئے ہیں۔ وہ ۱۹۷۹ء کی بنیاد پر کئے گئے ہیں اور یہ عوامی حکومت سے قبل کی پالیسی کے مطابق تھے۔ ہمیں اب فائنانس کمیشن کی رپورٹ کا انتظار ہے کہ اسکی رپورٹ کیا آتی ہے اور آجائے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ سندھ کے غریب لوگ مزدور اور سندھ میں رہنے والے باشندے کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی دوسرے صوبے کا حق لیں یا زیادہ رقم لیں اور خواجہ صاحب سمجھتے ہیں۔ بلکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ چاروں بھائیوں کی طرح چاروں صوبوں کو ان کا حق ملنا چاہیئے۔ دیکھئے اب جو فائنانس کمیشن کی نئی پالیسی آتی ہے وہ کس بنیاد پر آتی ہے۔ آیا آبادی کی بنیاد پر آتی ہے۔ یا آمدنی کی بنیاد پر آتی ہے۔ پتہ نہیں کہ کس چیز کو اس کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے جب وہ رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ میں اب اس پر مزید بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خواجہ صاحب نے relevance کا سوال اٹھا دیا ہے۔ اس لئے میں مزید تفصیل نہیں گنونا چاہتا کہ سندھ نے کیا کیا قربانیاں کیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : خواجہ صاحب آپ ہوں گے۔

خواجہ محمد صفدر : میں اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔  
وزیر صاحب اب جواب دیں۔

چوہدری محمد حنیف خان : کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ بھی کر لیں۔

Mr. Deputy Chairman: Yes, Finance Minister.

چوہدری محمد حنیف خان : \*جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب ! خواجہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کہا ہے۔ اب جب کہ میرے فاضل دوست نے اس چیز کو اپنے منہ سے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ نیک نیت تھے تو اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں بہت سی غلطیاں تھیں۔

خواجہ محمد صفدر : غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔

چوہدری محمد حنیف خان : صاحب نیک نیتی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بعض اوقات نیک نیتی سے قتل بھی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ لہذا کیونکہ انہوں نے خود یہ تسلیم کر لیا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے نیک نیتی سے کہا ہے۔

خواجہ محمد صفدر : سیری اصلاح کر دیں۔

چوہدری محمد حنیف خان : میں اب بالکل ان باتوں پر اس شرط کے ساتھ تنقید نہیں کروں گا جس شرط کے ساتھ ہونی چاہیئے تھی۔ میں بھی نیک نیتی کے ساتھ اور نہایت احترام سے چند ایک گذارشات کرنا چاہتا ہوں اور بعض

[Ch. Mohammad Hanif Khan]

باتیں ایسی بھی کہی گئی ہیں جن کا اس موشن کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلوچستان کے بارے میں بھی بعض چیزیں کہی گئیں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : آپ کو ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

چوہدری محمد حنیف خان : وہ غیر مناسب تھیں اور انکا کوئی جواز نہیں تھا اور خصوصاً جب میں نے خود کہا تھا کہ میں بحیثیت فائنانس منسٹر کے خود کہتا ہوں کہ آپ تو تین چار کروڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ موجودہ سال کے Annual Development Programme میں جو فنڈز دئے گئے ہیں، allocate کئے گئے ہیں، وہ ۲۱ کروڑ روپے کے ہیں اور اس سے پہلے بھی تقریباً اتنی ہی رقم دی گئی تھی۔ اب میرے پاس اس وقت لسٹ تو نہیں ہے کہ میں گنواؤں کہ بلوچستان میں کتنی development ہو رہی ہے اور کتنے ٹاؤن شپ بن رہے ہیں، کتنی جگہ بجلی پہنچائی جا رہی ہے، کتنی جگہ ٹیوب ویل لگائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ کبھی بلوچستان گئے ہوتے، تو شاید وہ سمجھ جاتے۔ اگر وہ جاتے بھی ہیں تو پھر بھی انہوں نے جو کہا کاش کہ وہ یہ سب کچھ نیک نیتی سے کہتے، لیکن میں اس معزز ایوان کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھنے کے لئے تیار ہوں۔ وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور مجھے اس چیز سے خوشی ہوگی کہ عوام کو اس چیز کا پتہ چل سکے کہ حکومت بلوچستان کے لئے کیا کچھ کر رہی ہے اور انشاء اللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ تمام ترقیاتی پروگرام جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں، ان کو میں اس معزز ایوان کے سامنے رکھ سکوں گا اور اس ایوان کی معرفت لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہر حال یہ ایک الگ بات ہے۔ جناب والا! اس order کے آرٹیکل ۳ اور ۴ کے متعلق خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ allocation اور جو taxes فیڈرل گورنمنٹ collect کرتی ہے، اس کے تناسب سے صوبوں کو ملنے چاہئیں۔ جناب

جس وقت یہ order نافذ ہوا تو اس سے ظاہر ہے کہ اس ملک کی جغرافیائی کیفیت کیا تھی۔

وہ جانتے ہیں چونکہ انہوں نے مشرقی پاکستان کا خود ذکر کیا ہے revenues کی جو تقسیم کی تھی میں اس بات کو دہرا رہا ہوں تاکہ وہ بات جو میں بعد میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں مؤثر طریقے سے کہہ سکوں یہ ضروری ہے کہ میں دوبارہ یاد دہانی کراؤں۔ اس معزز ایوان میں کہا گیا ہے کہ تقسیم کی صورت حال یہ تھی :

Taxes on income 80%, Duties of excise, tea, tobacco and betel-nuts 80%,  
Taxes on sales and purchases 80%, Export duties on jute and cotton 80%

جوٹ ہمارے پاس نہیں ہے اور کٹن ۸۰ فیصد۔ یہ صورت حال ہے آرٹیکل تھری کی جو شخص آرٹیکل تھری کو پڑھے گا وہ بذات خود اس نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کا قانون پاکستان کے اس حصہ میں بن سکتا ہے یعنی اس میں جوٹ نہیں ہے، چائے نہیں ہے تو اسکے بعد تقسیم جو ہے تو پاکستان کے باقی شعبوں کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے۔

Sum assigned to the provincial government in Article 3 shall be distributed amongst provinces in the following manner:—

As to the 30% of the sum assigned in each financial year as respect of taxes on sales and purchases East Pakistan shall receive the amount bearing to said 30% of the sum as collection in that province in that year bearing to the total collection and as to the balance of the 70% of the sum so assigned, East Pakistan shall receive 54%, the remaining amount of the sum assigned shall be paid to other provinces.

In respect of taxes and duties specified in Article 3 other than taxes on sales and purchase, East Pakistan shall receive 54% and other provinces together shall receive 46%. The share assigned in clause 1 or in clause 2 to the provinces other than the province of East Pakistan shall be on the basis of percentage

یہ صورت حال تھی تقسیم کی — خواجہ صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ

specified, *i.e.*, Punjab 56.5%, Sind 23.5%, North-West Frontier 15.5%, Baluchistan 4.5%.

[Ch. Mohammad Hanif Khan]

یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ تھا بالخصوص ٹیکسز کی تقسیم کا مختلف صوبوں میں اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ باہر سے ایکسپورٹ کو منگوا یا گیا۔ اس نے اسکی رپورٹ ہمیش کی نیشنل فائنانس کمیشن نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ انہوں نے تین مرتبہ بنایا اور اس کے بعد پھر سوچا گیا اور تب جا کر یہ مسئلہ طے ہوا۔ علیٰ ہذا القیاس ایک وقت کے بعد ۱۹۷۱ء میں یہ آرڈر پاس ہوا اس وقت جب کہ مشرقی پاکستان بھی موجود تھا پاکستان کے وہ صوبے جو کہ مغرب کی طرف تھے باقاعدگی کے ساتھ یہ حصہ لیتے رہے اور ان کو یہ حصہ مل رہا ہے۔ وہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ مل رہا ہے اگرچہ میرے معزز دوست خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ بخشش کے طور پر دیتے ہیں یہ امداد کیا ہوئی یہ قرضے کیا ہوئے لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا بہر حال جب کسی چیز پر اعتراض کرنا ہو تو اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں تو ان کے دلائل میں چاشنی نہیں رہتی اس لئے ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہوں یہ loan کیا ہوا؟ یہ grant کیا ہوئی؟ ہم فقیر ہیں۔ یہ چیزیں تو ساری کہنے والی ہیں۔ بہر حال فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبہ کو فقیر نہیں سمجھتی اور نہ اپنے آپ کو حاتم طائی سمجھتی ہے! ہم ایک ملک کے باشندے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہ غلط بات ہے۔ ہم ایک ملک کے باشندے ہیں یہ صرف انتظام کے لئے کچھ بندوبست کئے ہوئے ہیں ورنہ صحیح معنوں میں یہ ایک ملک ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ بہر حال صوبوں پر خرچ ہوتا ہے، اس ملک کی ترقی کے لئے بہبودی کے لئے خرچ ہوتا ہے۔ اس قسم کی باتیں تو ممکن ہے انہوں نے زیب داستان کے لئے کہی ہوں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے اور اس میں ایک چیز جس کا مجھے دکھ ہے کہ آج بھی اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہے کہ جناب صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اتنی طاقت ور ہے، ان کے جائز حقوق نہیں مل رہے ہیں اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جس وقت

کم از کم موجودہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ پچیس چھبیس سال کے بعد ایسا آئین بنایا جا چکا ہے جسے تمام سیاسی پارٹیوں نے تسلیم کیا -  
خواجہ محمد صفدر : تسلیم کیا اس پر عمل نہیں ہو رہا -

چوہدری محمد حنیف خان : خدا کا شکر ہے کہ آپ نے تسلیم تو کیا کہ آئین میں صوبائی خود مختاری دی گئی ہے اور وہ تمام صوبوں کو قبول تھی، ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں - خواجہ صاحب، میرے محترم دوست جن کو ابھی آپ نے یہاں پر سنا ہے فرماتے ہیں کہ صوبوں کو اختیارات نہیں دیئے گئے، صوبے ختم کر دیئے گئے ہیں میں اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا ہوں اور آپ خود تسلیم کر رہے ہیں مجھے اس چیز کا احترام ہے، کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ موجودہ آئین میں صوبوں کو جتنی خود مختاری ملی ہے اس سے پہلے کسی کے ذہن میں نہیں تھی اور ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ موجودہ حکومت نے اس مسئلہ کو جو کہ پچیس چھبیس سال متنازعہ فیہ تھا جس پر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا اس کا فیصلہ کیا اور اسے تمام فریقین نے قبول کیا - اور اس پر دستخط کئے - میں سمجھتا ہوں کہ حتیٰ الوسع جتنا بھی ہو سکتا ہے - خود مختاری کے اس مسئلہ کو حل کیا گیا ہے - جناب والا! بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی تکمیل میں چند مراحل سے گزرنا پڑتا ہے - صوبوں کو ان کے جائز حقوق دینے کی جو پہلی کیفیت تھی یا حیثیت تھی اس کو تبدیل کرنے کے لئے بعض حالات میں چند چیزوں کے سلسلے میں کچھ وقت لگتا ہے وہ عمل اس وقت سے شروع ہے جس وقت سے موجودہ آئین کو اس آئینی اسمبلی نے منظور کیا اور اس پر عمل جاری ہے تاکہ تمام صوبوں کے حقوق ان کو پورے پورے دیئے جائیں اور فیڈرل گورنمنٹ نیک نیتی سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہی ہے - جناب والا! اس سلسلے میں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا بات صرف اتنی ہے کہ صوبوں کا یہ آرڈر جس کے ایک حصہ پہ بھی عمل نہیں ہو سکا ایک حصہ نہیں بلکہ تمام کے تمام جتنے بھی آرٹیکل ہیں اور

[Ch. Mohammad Hanif Khan]

اگر ان کو پڑھا جائے تو نتیجہ یہ نکالے گا کہ ان پر عمل ہو بھی نہیں سکتا اور اگر آئین کو پڑھا جائے اور موجودہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کو دیکھا جائے تو اس پر عمل ہو بھی نہیں سکتا۔ جس میں بار بار مشرقی پاکستان کے حصہ کا ذکر آتا ہے۔۔۔

خواجہ محمد صفدر : آپ اسے تبدیل کیوں نہیں کر دیتے ؟

رانا محمد حنیف : آپ کی بہت مہربانی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ وہی کچھ کہہ چکے ہیں جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں اور اگر آپ بالفرض مجھے موقع دیتے تو میں عرض کرتا کہ کیا صورت حال ہے غالباً اس کی ضرورت نہ پڑتی اور اس سے آگے اور کوئی موٹن discuss ہو سکتی تھی اور اتنا وقت بھی ضائع نہ ہوتا میں عرض کر رہا تھا جیسا کہ میرے دوست نے تسلیم کیا ہے ”اسے تبدیل کیوں نہیں کر دیتے“ اور یہ لہجوں نے اس وقت کہا جب اس موجودہ صورت حال کے تحت موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ آرڈر redundant نظر آتا ہے۔ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی کیونکہ مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش بن چکا ہے اور پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور اس میں مشرقی پاکستان کا جو حصہ ہے ٹیکسز میں اس کا ذکر آتا ہے اور جو ٹیکسز وصول ہو رہے ہیں ۱۹۷۱ء کے بعد سے لیے کر، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے بعد تک جو ٹیکسز ہم collect کر رہے ہیں وہ مشرقی پاکستان سے collect نہیں ہو رہے تھے، یہاں مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، ہمارے انتظام کے تحت نہیں تھا۔ بنگلہ دیش تسلیم ہونے کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو ٹیکسز جمع کئے جا رہے ہیں مشرقی پاکستان سے نہیں اس طرف سے جمع ہو رہے ہیں۔ اگر آرڈر کو پڑھوں تو اس میں ٹیکسز کا بھی ذکر ہے جو مشرقی پاکستان میں جمع ہوتے تھے۔ تو میری گزارش یہ ہے اس آرڈر میں اگر دیکھا جائے تو اس میں سابق ایسٹ پاکستان ہے جو اس کے حصہ میں آسکتا تھا۔ اگر کسی طریقہ سے

جمع کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے۔ جہاں تک مغربی طرف کے چاروں صوبوں کا تعلق ہے جو کچھ ان کا حصہ تھا ان کو باقاعدگی کے ساتھ مل رہا ہے۔ نہ صرف وہ حصہ مل رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ جیسا کہ خواجہ صاحب نے بذات خود کہا ہے۔ ایڈز، گرانٹس، لونز یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہے۔ یہ ایک مشکل مسئلہ تھا۔ اب میں آئین کا وہ آرٹیکل پڑھے دیتا ہوں۔ آرٹیکل پڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آئین کا اس بات سے براہ راست تعلق ہے۔ میرے محترم دوست بھائی خواجہ صاحب کو اس بات کا علم ہے۔ آج تک مشرقی پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ باقاعدگی کے ساتھ ادا کر رہی ہے۔ جس میں لونز بھی ہیں۔ یہی نہیں میں یہ بھی گزار کرنا چاہتا ہوں اخراجات کا ذرا اندازہ تو لگائیں۔ لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد نوے ہزار آدمی تھے، اس طرف۔ اس طرف ان کے بیسٹامرز عزیز تھے جن کو تنخواہیں ان کا گزارہ الاؤنس دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے بے شمار لوگ اس طرف تھے۔ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ یہاں ہر کام نہیں کر رہے تھے۔ ہمارے لوگ وہاں ہر کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ جیل میں تھے ان کے نیوی بچے ماں بہن بھائی سب اس طرف موجود تھے۔ ان کو فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرتی تھی ان کو پیسے دیتی تھی۔ جو جو یہاں پر مشرقی پاکستان کے لوگ تھے ان کو فیڈرل گورنمنٹ پیسے دیتی تھی۔ وہاں بیسٹامرز فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ تھے، وہ بیسٹامرز فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین جو مشرقی پاکستان سے آئے ہیں، ان کو فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے۔ ابھی تک لوگ آرہے ہیں۔ ابھی ابھی آئے ہیں۔ ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے۔ یہ میں اس بات کے علاوہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور بہت ذمہ داریاں ہیں۔ ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ابھی تک اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے۔ لرنز اور دوسری بیسٹامرز liabilities ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہیں اور اس کے باوجود ہم اکاؤنٹس میں ایسی چیزوں کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس موجودہ

[Ch. Mohammad Hanif Khan]

آرڈر میں تبدیلی کرنی پڑے گی تا کہ صوبوں کے جو جائز حقوق جو ہیں وہ ان کو ملیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے میں اس کو پڑھے دیتا ہوں :

For this I read Article 160:

“(1) Within six months of the commencing day and thereafter at intervals not exceeding five years, the President shall constitute a National Finance Commission consisting of the Minister of Finance of the Federal Government, the Ministers of Finance of the Provincial Governments, and such other persons as may be appointed by the President after consultation with the Governors of the Provinces.

(2) It shall be the duty of the National Finance Commission to make recommendations to the President as to:—

(a) the distribution between the Federation and the Provinces of the net proceeds of the taxes mentioned in clause (3);”

جو نیچے آئے گا

“(b) the making of grants-in-aid by the Federal Government to the Provincial Governments;

(c) the exercise by the Federal Government and the Provincial Governments of the borrowing powers conferred by the Constitution; and

(d) any other matter relating to finance referred to the Commission by the President.

(3) The taxes referred to in paragraph (a) of clause (2) are the following taxes raised under the authority of Parliament, namely:—

(i) taxes on income including corporation tax, but not including taxes on income consisting of remuneration paid out of the Federal Consolidated Fund;

(ii) taxes on sales and purchases;”

جن کا ان میں ذکر ہے -

“(iii) export duties on cotton....

We could not think of jute.”

اس میں تو جوٹ بھی لکھا ہوا ہے اور اس میں تو tea بھی لکھا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سال تو کٹن پر بھی export duty نہیں ہے - بلکہ excise duty بھی نہیں ہے -

“export duties on cotton, and such other export duties as may be specified by the President;

(iv) such duties of excise as may be specified by the President; and

(v) such other taxes as may be specified by the President.

(4) As soon as may be after receiving the recommendations of the National Finance Commission, the President shall, by Order, specify, in accordance with the recommendations of the Commission under paragraph (a) of clause (2), the share of the net proceeds of the taxes mentioned in clause (3) which is to be allocated to each Province, and that share shall be paid to the Government of the Province concerned, and, notwithstanding the provision of Article 78 shall not form part of the Federal Consolidated Fund.

(5) The recommendations of the National Finance Commission, together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon, shall be laid before both Houses and the Provincial Assemblies.

(6) At any time before an Order under clause (4)...”

They are not relevant.

اب ان ٹیکسز کا جن کا ذکر یہاں پر کیا جا چکا ہے ان کا ذکر آئین میں ہے۔ ان کے بارے میں اب نیشنل فائنانس کمیشن اپنی recommendations کرے گی۔ اس کے بعد آرڈر پیش کیا جائے گا۔ وہ اس آرڈر کو، اس قاعدے کو، اس ضابطے کو واضح کرے گی کہ کس طریقے سے، کس ratio سے، کس تناسب سے، کس حد تک مختلف صوبوں کو ان ٹیکسز کا حصہ دینا ہے۔ اس کے لئے نیشنل فائنانس کمیشن ترتیب دیا جا رہا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایک دو تین چار دن میں ہو جائے۔ خواجہ صاحب نے ہذا خود اسے تسلیم کیا ہے۔ ہم نے باہر سے بھی ماہرین منگوائے اس کے بعد جا کر یہ فیصلہ کچھ ہوا۔ کہتے ہیں آئین مرتب ہوئے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ کمال ہے! نیشنل فائنانس کمیشن نے اپنی سفارشات نہیں بھیجیں۔ یہ خود

[Ch. Mohammad Hanif Khan]

تسایم کیا ہے۔ ۱۹۵۱ء سے شروع کیا تھا۔ اور اب جھگڑا سوا سال میں شروع کر دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جلد ہم کوشش کریں گے کیونکہ یہ لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ آئین کی جو requirements ہیں ان کو لازمی طور پر مطمئن کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جا کر نیشنل فائنانس کمیشن اپنی سفارشات پیش کر دے گا تو نیا آرڈر آئے گا۔ جس کے تحت مختلف صوبوں کو مناسب جائز حصہ لازمی طور پر ملے گا۔ اس سے قبل میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں میرے دوست کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمجھ میں تو پہلے ہی تھا یہ خواہ مخواہ تماشہ کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری کتابیں لے کر آئے ہوئے تھے لاء کی پی ایل ڈی لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا کمال ہو گیا خواجہ صاحب جب ہم عدالتوں میں جاتے تھے تو اپنے موکل کو یہ دکھانے کے لئے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے۔ بہت لمبا چوڑا بستہ اٹھا کر لے جاتے تھے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : اس پر بھی بعد میں احتجاج ہوگا۔ اس کے بعد۔

چوہدری محمد حنیف خان : بہر حال اگر یہ بات ہے تو میں اپنے لئے کہے دیتا ہوں یہ خواجہ صاحب نے بھی کہا تھا۔ اسی لئے میں نے کہا۔ میں نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ اتنا لمبا چوڑا بستہ انٹی کتابیں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وکیل لازمی طور پر سر پر بستہ اٹھاتے ہیں تاکہ موکل کو پتہ لگے کہ یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یہ کس کے سر پر اٹھا کر لائے ہیں؟

جناب ڈپٹی چیئرمین : چھ آدمیوں کے سر پر۔

چوہدری محمد حنیف خان : شہزاد گل اٹھا کر لائے ہیں۔ تو جناب والا! جتنی جلد ممکن ہو مہکمہ نیشنل فائنانس کمیشن اپنی سفارشات پیش کر دے گا۔

**Mr. Deputy Chairman:** Thank you very much. Now, the next item.

MOTION *RE*: FEDERAL GOVERNMENT'S WHITE PAPER ON  
BALUCHISTAN SITUATION

خواجہ محمد صفدر : جناب والا ! میں اس item کو اس ایوان کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بلوچستان کے حالیہ واقعات کے متعلق ہے اور اس کے متعلق ۱۶ دسمبر کو اس ایوان میں بحث ہو رہی ہے اس کے بعد جناب والا ! چھٹی ! کیونکہ میں اور کتابیں نہیں لایا ہوں۔

**Mr. Deputy Chairman:** Well, then item No. 7.

MOTION *RE*: APPOINTMENT OF SPECIAL COMMITTEE TO  
INVESTIGATE INTO THE CAUSES OF TARBELA DAM DISASTER

**Malik Mohammad Akhtar:** Point of order. Sir, I would like to have your ruling whether this agenda, this item No. 7, will be repeated next time. I want its deletion.

**Mr. Deputy Chairman:** Now, this is a simple sort of thing. He can discuss this.

**Malik Mohammad Akhtar:** No, Sir. I want no discussion. I want its deletion from the agenda.

خواجہ محمد صفدر : بجٹ کے بغیر کئے یہ شقی حذف کیسے ہو جائیگی۔ میں کچھ گزارشات کروں گا آپ کو جو اعتراض ہے مجھے بھی اس کا جواب دینے دیجیئے۔

مالک محمد اختر : مجھے آپ سن لیں اور اس کے بعد جواب دے دیں۔

خواجہ محمد صفدر : اچھا جی۔ چلیئے آپ منائیں۔

**Malik Mohammad Akhtar:** \*Sir, I would rise on a point of order that the honourable Senator Khawaja Mohammad Safdar has sought to get a Committee appointed to investigate and enquire into the causes of Tarbela Dam. He wants a Committee to go and assume certain executive functions which

\*Speech not corrected by the honourable Minister.

[Malik Mohammad Akhtar]

this House is not competent to empower any of its Members and any of the Committees. I would draw your attention to Article 90 of the Constitution:

“90 (1) Subject to the Constitution, the executive authority of the Federation shall be exercised in the name of the President by the Federal Government consisting of the Prime Minister and the Federal Ministers which shall act through the Prime Minister who shall be the Chief Executive of the Federation.

(2) In the performance of his functions under the Constitution, the Prime Minister may act either directly or through the Federal Ministers.”

Now, Sir, I would like to go to Article 141, page 64:

“Subject to the Constitution, Parliament may make laws, including laws having extra-territorial operation, for the whole or any part of Pakistan, and a Provincial Assembly may make laws for the Province or any part thereof.”

Now, Sir, Article 142:

“Subject to the Constitution—

- (a) Parliament shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the Federal Legislative List;
- (b) Parliament, and a Provincial Assembly also shall have power to make laws with respect to any matter in the Concurrent Legislative List;”

Now, Sir, I come to part I and Part II of the Concurrent Legislative List. We have got powers to make laws in respect of Railways, Mineral Oils, development of industries and then, of course, WAPDA and then a Council of Common Interest can be formed through a law and then we can also legislate in respect of fees, offences, etc.

Now, Sir, I come to the rule-making powers of the Constitution under Article 67. This is very important for the present purpose.

**Mr. Deputy Chairman:** This is Article?

**Malik Mohammad Akhtar:** Article 67:

“67.—(1) Subject to the Constitution, a House may make rules for regulating its procedure and the conduct of its business, and shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership

thereof, and any proceedings in the House shall not be invalid on the ground that some persons who were not entitled to do so sat, voted or otherwise took part in the proceedings.

(2) Until rules are made under clause (1), the procedure and conduct of business in a House shall be regulated by the rules of procedure made by the President."

And we have made a Committee for the purpose today. That need not be referred. I will repeat Article 67(1):

"Subject to the Constitution, a House may make rules for regulating its procedure and the conduct of its business, and shall have power to act notwithstanding any vacancy...."

**Mr. Zamarud Hussain:** Point of order, Sir.

**Malik Mohammad Akhtar:** I am already on a point of order. Don't interrupt me.

**Mr. Deputy Chairman:** He is already on a point of order.

**Malik Mohammad Akhtar:** Sir, we are competent subject to the Constitution. Subject to the Constitution, we are competent that a House may make rules for regulating *its procedure* and conduct of its business. Now, my friend is relying on rule 174. Now, sir, I would come to this rule. I will read 173 first.

173. The Senate may, by motion, appoint a Special Committee which shall have such composition and functions as may be specified in the motion.

Now, what are the functions which can be entrusted to a Special Committee. I have gone through the entire Rules of Procedure just now. Now, sir, rule 194. He was rightly referring to that.

"174. In the absence of special provisions relating to a Select Committee or a Special Committee, the provisions relating to the Standing Committees shall apply *mutatis mutandis* to a Select Committee and a Special Committee."

That means the functions of a Special Committee are not defined and they could be under rule 174 the same as that of a Standing Committee. Now, sir, there is a lacuna in these rules as well. Functions of the Committee, you come back to rule 140 on page 77.

"140.—(1) A Committee shall examine a Bill, subject or matter referred to it by the Senate and shall submit its report to the Senate with

[Malik Mohammad Akhtar]

such recommendations including suggestions for legislation, if any, as it may deem necessary. In the case of a Bill, the Committee shall also examine whether the Bill violates, disregards or is otherwise not in accordance with the Fundamental Rights guaranteed under the Constitution.”

Sir, my humble submission is that neither the Constitution nor the Rules of Business empower this House to delegate functions of the Prime Minister which he is supposed to conduct under Article 90 of the Constitution, either directly or through his Ministers. I don't mind if any precedent is set or if any irregularity has been committed in the past. I am not bound by that. Whatever it is, I would say, it is clear that our function is only to legislate and legislate in respect of Federal Legislative List (Part I) and Concurrent Legislative List. The Assemblies do not enjoy powers or functions in any form to interfere with the executive powers under Article 90 which are vested with the Prime Minister and are to be exercised either directly or through the Ministers.

Sir, there is another provision. The parliament can delegate its powers and even there again there is a limitation. I will give you, it is Article 98. It reads:

“On the recommendation of the Federal Government, parliament by law confer functions upon officers or authorities subordinate to the Federal Government.”

This is again a power. Now he wants to confer functions, and how can the functions be conferred? It is that “On the recommendation of the Federal Government parliament may by law confer functions upon officers and authorities subordinate to the Federal Government.”

Therefore, I say, Sir, that such motions, I regret cannot be brought in this House. This is a Committee which is supposed to exercise executive powers and I consider that under the law as it exists in this respect, I am sorry we cannot do it. I am a humble Member of the Parliament, humble servant of the House. It is my duty and a very unpleasant duty to point out wherever irregularity is being committed. Suppose tomorrow it they pass a Resolution saying that the Provincial Governor of Baluchistan is not working properly or the Chief Minister is not working properly, are they empowered to do so? I am sorry they are not. I think, we can dispose it of on this basis.

**Mr. Deputy Chairman:** Malik Akhtar, I have thoroughly understood. You in your very lengthy speech, I think, very elaborate speech have said that the parliament cannot appoint persons and confer such functions which could amount to the performance of executive duties. Correct. But under Article 173 the Mover says that the Senate may by motion appoint a Special Committee which shall have such composition and functions as may be specified in the motion. That is correct that under the Constitution the Senate cannot appoint committees to perform any executive functions. Naturally, function in this rule means function in performance of the legislative duties.

**Malik Mohammad Akhtar:** Yes, Sir, that is my point.

**Mr. Deputy Chairman:** But I want to know one thing only. How is a Member precluded under rule 173 to make any motion?

**Malik Mohammad Akhtar:** No, Sir, he is not precluded.

**Mr. Deputy Chairman:** Kindly look, please try to understand me. Now, there can be only two stages. No. 1, he rises and wants to make a motion. You make an objection. Suppose I accept your objection. I will refuse leave to Khawaja Safdar that he cannot make the motion. This is one of the stages.

No. 2, he makes a motion. You make your objection. Then I put it to the House and the House will refuse to appoint the Committee. So, I want to know whether at this stage, suppose if I accept your arguments, can I refuse leave to Khawaja Mohammad Safdar that he cannot move this motion?

**Malik Mohammad Akhtar:** My humble submission is that the procedure adopted for bringing this motion on the agenda is *ultra vires*. It is unconstitutional. So, I would request them to withdraw the motion and not to move it.

**Mr. Deputy Chairman:** You mean I should not allow him to move?

**Malik Mohammad Akhtar:** This is my humble submission and you agreed to the latter part of it. Supposing he brings something which is in conflict with the Constitution.

جناب زمر د حسین : جناب والا! میں اپنی معلومات کے لئے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔

خواجہ محمد صفدر : ان کی انتہائی دلچسپ تقریر کا جواب آئندہ جمعہ کے روز دیں گے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : آپ کے پابند تو نہیں ہو سکتے۔ باقی ممبران کی رائے یہ ہے کہ اسے ملتوی کریں یہ صحیح ہے ورنہ یہ بات...

خواجہ محمد صفدر : جناب والا! میں نے درخواست کی تھی۔

ملک محمد اختر : ہوائنٹ آف آرڈر۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : وہ ہوائنٹ آف آرڈر پر ہیں۔

ملک محمد اختر : اگر ملتوی کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔

جناب شہزاد گل : ہر ایک کے موشن کی مخالفت ہوگی تو کوئی بھی نہیں آسکرے گی -

(مداخلت)

جناب ڈپٹی چیئرمین : سب ایک ہی بار نہیں - ایک ایک -

جناب زمرہ حسین : پوائنٹ آف ایکپلینیشن - میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ نیشنل اسمبلی نے اس قسم کے رولز کے تحت ایک کمیٹی مقرر کی تھی - جو بلوچستان کے حالات کا معائنہ کرنے گئی تھی اور اس سلسلے میں اس نے نیشنل اسمبلی میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی -

جناب ڈپٹی چیئرمین : کیا آپ پوائنٹ آف آرڈر پیش کر رہے ہیں -

جناب زمرہ حسین : میں اطلاع مانگ رہا ہوں -

جناب ڈپٹی چیئرمین : نو نو - یہ نہیں ہو سکتا - اگر آپ چاہتے ہیں - میں رولنگ دے دیتا ہوں - اگر آپ تیاری کے لئے ڈائم چاہتے ہیں -

خواجہ محمد صفدر : جی ہاں -

جناب ڈپٹی چیئرمین : باقی دوستوں کی بھی رائے معلوم کرنی ہے -

**Mr. Ihsanul Haq:** Sir, I think it should be postponed for next Friday and we should look at the Constitution.

**Mr. Deputy Chairman:** This is a very important point what Malik Akhtar has raised. Everybody should consider it thoroughly.

**Malik Mohammad Akhtar:** I will be the happiest man if we can appoint such committee but I consider we cannot.

جناب ڈپٹی چیئرمین : یہ تو وہ بات ہوگی خواجہ صاحب ، ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ خلاف قانون ہے - اس چیز کو تو چیئرمین ہی اجازت نہیں دی

جانی چاہیئے تھی۔ یہ آئیٹم آرڈر آف ڈے میں چھپنی نہیں چاہیئے تھی اگر چھپ گئی ہے تو یہ رول کی خلاف ورزی ہے۔ میں اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ یہ موشن move کریں۔ ان کا اعتراض یہی ہے leave ہونی تھی یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ یہ بزنس آج transact نہیں کر رہے ہیں۔

خواجہ محمد صفدر : تھک گئے ہیں مارے۔ اب ہاؤس ملتوی کیا جائے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : کل ہفتہ کی صبح کو رکھتے ہیں۔

ملک محمد اختر : کل کس وقت ملنا ہے؟

خواجہ محمد صفدر : مارننگ کو۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : میرے خیال میں ساڑھے نو رکھتے ہیں۔

ملک محمد اختر : نو بجے رکھیں تاکہ ایک گھنٹہ دوسرے ہاؤس کے لئے بھی مل سکے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : آپ کو تو کل دوسرے ہاؤس کے لئے اجازت نہیں مل سکے گی۔ کل آپ کو یہیں رہنا پڑے گا، اس لئے کہ کل آپ کا بل ہے۔

ملک محمد اختر : نہیں جی۔ ۱۱ بجے کرلیں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : نہیں نہیں۔ نو بجے شروع کر کے ۱۲ بجے ختم کر دیں گے۔

ملک محمد اختر : جیسے آپ کریں۔

(مداخلت)

جناب ڈپٹی چیئرمین : نہیں نہیں آقا صاحب ، ۹ بجے شروع کریں گے اور ۱۲ بجے ختم کردیں گے۔ کئی معزز سینیٹرز کوچن کے گھر نزدیک ہیں، انہوں نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔

ساک محمد اختر : ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔

خواجہ محمد صفدر : ساڑھے نو بہت جلدی ہوگا۔

Mr. Deputy Chairman: The House is adjourned to meet again tomorrow at 9-30 a.m.

The House adjourned till half past nine of the clock in the morning on Saturday, December 14, 1974.